

Urdu (اردو)

## تعارفی رسومات

صلیب کی علامت

باب ، اور بیٹھ اور روح القدس کے نام پر  
آمین  
سلام

مار خداوند یسوع مسیح کا فضل ، اور  
خدا کی محبت ، اور روح القدس کی میل  
جول آپ سب کے ساتھ رہیں  
اور اپنی روح کے ساتھ  
تذلیل کا ایکٹ

بھائیو (بھائیو اور بھائیں) ، آئی م اپنے  
گناہوں کو تسلیم کریں ، اور اس طرح  
قدس اسرار کو مناز کئے خود کو تیار  
کریں

میں اللہ تعالیٰ سے اعتراف کرتا ہوں اور  
آپ کے لئے ، میر بھائیو اور بھائیں ، کہ میں  
زبٹ گناہ کیا ، میر خیالات میں اور  
میر الفاظ میں ، میں زکیا کیا اور  
میں کیا کرنے میں ناکام رہا ہوں ، میری  
غلطی کے ذریعے ، میری غلطی کے ذریعے ،  
میری انتہائی تکلیف دیکھتی کے ذریعے ؟  
لذا میں مبارک مریم کو میںشہ کر  
ویرگین سے پوچھتا ہوں ، تمام فرشتہ اور  
سنن ، اور آپ ، میر بھائیو اور بھائیں ،  
میر کے لئے خداوند مار خدا سے دعا کرنا  
اللہ تعالیٰ م پر رحم کر ، مار گناہوں  
کو معاف کرو ، اور میں لازوال زندگی  
میں لائیں

آمین  
کیری

رب رحم کر  
رب رحم کر  
مسیح، رحم کرو.

Pashto (پښتو)

## د پیژندنې مراسلم

د صلیب ننبه

د پلار او زوی په نوم، د روح القدس په نوم.  
آمین  
سلام کول

زمور د رب عیسی مسیح فضل، او د خدای  
مینه، او د روح القدس کمونی له تاسو ټولو  
سره اوسي.  
او ستاسو د روح سره.  
د پنیر ضد عمل

ورو brothers (ورو و او  
خوینست)، رائی چې مور ته اجازه راکړئ  
زمور ګناہونه ومنی، او همداشان خپل  
خانونه چمتو کړئ ترڅو مقدس مریس  
ولمانځئ.

زه د خدای تعالیٰ خدای ته اقرار یم او تاسو  
ته، زما ورو brothers او خویندو، چې ما  
په کلکه ګناہ کړی وہ، زما په افکارو او زما  
په ټکو کې، هغه خه چې ما کړی دی او هغه  
څه چې زه یې په کولو کې پاتې راغلی، زما  
د ګناہ له لارې، زما د ګناہ له لارې، زما د  
خورا لوی خطلا له لارې؛ له همدي امله زه د  
بیمې مرجان غږوم ټولې پربنټی او ستونه،  
او تاسو، زما ورو brothers او خویندو،  
زما لپاره زمور خبستن خدای ته دعا کوله.

کیدای شي خدای په مور رحم وکړي، زمور  
ګناہونه وبخښه، او مور د تل پاتې ژوند  
لپاره راډرو.  
آمین  
کیری

ربه رحم وکړه.  
ربه رحم وکړه.  
مسیح، رحم وکړه.

## Urdu (اردو)

مسیح، رحم کرو.

**رب رحم کر**

رب رحم کر

گلوریا

سب سے زیاد خدا کی شان، اور زمین پر  
اچھے لوگوں کے لیے امن م تیری تعریف  
کرتے ہیں، م آپ کو برکت دیتے ہیں، م  
آپ کو پسند کرتے ہیں، م تیری تسبیح  
کرتے ہیں، م تیری عظیم شان کے لیے تیرا  
شکر ادا کرتے ہیں، خُداوند خُدا، آسمانی  
بادشا، ا خدا، قادر مطلق باپ خداوند  
یسوع مسیح، اکلونا بیٹا، خُداوند خُدا، خُدا  
کا بُرّ، باپ کا بیٹا، آپ دنیا کے گناہوں کو  
دور کرتے ہیں، م پر رحم فرمائیں آپ دنیا کے  
گناہوں کو دور کرتے ہیں، ماری دعا قبول  
کرو تم باپ کے دامن اتھے بیٹھو، وہ م پر  
رحم فرمائیں آپ کے لیے اکیا ہی مقدس  
ہیں، صرف تو ہی رب صرف آپ ہی  
اعلیٰ ترین ہی حضرت عیسیٰ علی  
السلام، روح القدس کے ساتھ، خدا باپ کے  
جلال میں آمین

جمع کریں

**میں نمازِ بڑھنے دو.**

آمین

کلام کی کٹائی

پلا پڑھنا

رب کا کلام

خدا کا شکر۔

ذمہ داری زبرور

دوسرا پڑھنا

رب کا کلام

خدا کا شکر۔

انجیل

**رب آپ کے ساتھ وہ**

اور اپنی روح کے ساتھ

## Pashto (پښتو)

مسیح، رحم وکړه.

**ربه رحم وکړه.**

ربه رحم وکړه.

گریارله

د خدای پاک په لوړ ئای کې، او په ځمکه  
کې د بنہ نیت خلکو ته سوله. مور ستا  
ستاینه کوو، مور تاسو ته برکت ورکوو، مور  
 TASO سره مینه لرو، مور ستا وباړ کوو، مور  
ستاسو د لوی جلال لپاره منه کوو، خبینت  
خدای، د آسمان پاچا، ای خدایه، خدایه  
پلاره. مالک عیسیٰ مسیح، یوازینی زوی،  
خبینت خدای، د خدای وری، د پلار زوی،  
TASO د نېر ګناهونه لري کړئ، پر مور رحم  
وکړه؛ TASO د نېر ګناهونه لري کړئ، زمور  
دعا ترلاسه کړئ؛ TASO د پلار بشی لاس ته  
ناست یاست، په مونږ رحم وکړه. یوازی  
ستا لپاره مقدس ذات دی، ته یوازی رب  
یې، ته یواحی لوی یې عیسیٰ مسیح، د روح  
القدس سره، د خدای پلار په جلال کې.  
آمین.

راتولول

**رائے چې دعا وکړو.**

آمین.

د کلمې تالاري

لومړۍ لوستل

د خبینت کلمه.

د خدای شکر دی.

وړونکي زېرم

دوهم لوستل

د خبینت کلمه.

د خدای شکر دی.

گوسيپيل

**رب دې درسره وي.**

او د خپل روح سره.

## Urdu (اردو)

ک مطابق مقدس انجل س ایک پڑھنا N

ا رب، تیری شان

### خداوند کی انجل

خداوند یسوع مسیح آپ کی ستائش کریں  
ایمان کا پیشہ

میں ایک خدا کو مانتا ہوں، قادر مطلق  
باپ، آسمان اور زمین کا بناء والا، طا بر  
اور پوشید تمام چیزوں میں سے میں  
ایک خداوند یسوع مسیح پر یقین رکھتا  
ہوں، خدا کا اکلوتا بیٹا، تمام عمروں سے  
پہلے باپ سے پیدا وا خدا سے خدا،  
روشنی سے روشنی، سچے خدا سے سچا  
خدا، پیدا وا، نہیں بنایا گیا، باپ کے ساتھ  
مطابقت رکھتا اُس کے ذریعہ تمام  
چیزوں بنی تھیں ہمار آدمیوں کے لیے اور  
ماری نجات کے لیے و آسمان سے نیچے  
آیا، اور روح القدس کے ذریعہ کنواری مریم  
کا اوتار تھا، اور انسان بن گیا۔ ہماری  
خاطر و پوئیسیں پیلاطس کے تحت  
مصلوب ہوا، اس کی موت وئی اور اس  
دفن کیا گیا اور تیسر دن دوبار جسیں اُنہاں  
صحیفوں کے مطابق و آسمان پر چڑھ  
گیا اور باپ کے دامن اتھ پر بیٹھا و  
پھر جلال میں آئے گا زند اور مرد کا  
فیصلہ کرنا اور اس کی بادشاہی کی کوئی  
انتہا نہیں وگی میں روح القدس پر یقین  
رکھتا ہوں، خداوند، زندگی دینے والا، جو  
باپ اور بیٹہ سے نکلتا، جو باپ اور بیٹہ  
کے ساتھ سجد اور جلالی، جس نے  
نبیوں کے ذریعہ کلام کیا میں ایک،  
 المقدس، کیتھولک اور رسولی چرچ پر یقین  
رکھتا ہوں میں گناہوں کی معافی کے لیے  
ایک بیتسمہ کا اقرار کرتا ہوں اور میں  
مُردوں کے جسیں اُنہوں کا منتظر ہوں اور  
آر والی دنیا کی زندگی آمین

homily

عالیٰ دعا

## Pashto (پښتو)

د N په وینا د مقدس انجل خخه لوستل.

پاک دی وي، ای ربہ

### د خبتن انجل.

ستا ستائنه، رب عیسی مسیح.

د باور مسلک

زه په یو خدای باور لرم رب العالمین، د  
آسمان او څمکې جورونکی، د ټولو لیدلو او  
نه لیدلو شیانو خخه. زه په یو رب عیسی  
مسیح باور لرم د خدای یوازینی زوی، د ټولو  
عمرونو دمکه د پلار خخه زیریدلی. د خدای  
خخه خدای، له رہا خخه رہا، ریښتینی خدای  
له ریښتینی خدای خخه زیریدلی، نه جور  
شوی، د پلار سره مطابقت لري؛ د هغه له  
لارې ټول شیان جور شوی. زمور د نارینه  
وو او زمور د نجات لپاره هغه د آسمان خخه  
راوتلی، او د روح القدس په واسطه د  
ورجن مریم مجسم شو، او سری شو. زمور  
په خاطر هغه د پونتیوس پیلاطس لاندی په  
صلیب ووژل شو، هغه مهر شو او بنخ شو او  
په دریمه ورخ بیا پاخید د انجلیونو سره سم.  
هغه آسمان ته پورته شو او د پلار بینی لاس  
تہ ناست دی. هغه به بیا په جلال کې راشی  
د ژوندیو او مهو قضاوت کول او د هغه  
سلطنت به پای نه وي. زه په روح القدس  
باور لرم، رب، ژوند ورکوونکی، خوک چې د  
پلار او زوی خخه تیریری، خوک چې د پلار او  
زوی سره مینه او ویار لري، چا چې د  
پیغمبرانو له لارې خبرې کړې دي. زه په  
یوه، مقدس، کاتولیک او رسول کلیسا باور  
لرم. زه د ګناہونو د بخینې لپاره یو پېتsuma  
اقرار کوم او زه د مهو بیا ژوندی کیدو ته  
سترګې په لاریم او د نېر راتلونکی ژوند.  
آمین.

په زدہ پوری

نړیوال لمونځ

## Urdu (اردو)

م رب س دعا کرنا ہے  
ا رب، ماری دعا سن  
**یوکرست کی لیٹورجی**  
آفریزی

خُدا میشد ک لی مبارک و  
دعا کرو، بھائیو (بھائیو اور، نو)، ک میری  
اور تم اری قربانی و سکتا الا کو  
قبول و قادر مطلق با۔

رب آپ کی قربانی قبول فرمائے اس ک  
نام کی تعریف اور جلال ک لی، ماری  
بھائی ک لی اور اس ک تمام مقدس چرخ  
کی بھائی

آمین

## یوکرستک دعا

رب آپ ک ساتھ و  
اور اپنی روح ک ساتھ  
اپنے دلوں کو اٹھاؤ  
م اُن کو رب کی طرف اٹھاڑے ہے  
ایہ م رب اپنے خدا کا شکر ادا کریں

ی صحیح اور منصفانہ

پاک، مقدس، پاک رب الافواج آسمان و  
زمین تیر جلال س معمور ہے حسنہ  
اعلیٰ میں مبارک و جو خداوند ک نام  
پر آتا حسنہ اعلیٰ میں

## ایمان کا راز

م تیری موت کا اعلان کرتے ہے ا رب!  
اور اپنی قیامت کا دعویٰ کریں جب تک  
آپ دوبار ن آئیں یا: جب م ی روٹی  
کھاتے ہیں اور ی پیال پیدتے ہیں، م تیری  
موت کا اعلان کرتے ہیں، ا رب، جب تک  
آپ دوبار ن آئیں یا: میں بجا، دنیا ک  
نجات دند، آپ کی صلیب اور قیامت کی  
طرف س آپ ن میں آزاد کیا

آمین

## Pashto (پښتو)

مور رب ته دعا کوو.  
ربه، زمور دعا واورئ.

**د اختصاصو تالاري**  
پیشنہاد

خدای دی د تل لپاره برکت واچوی.  
دعا وکړئ، ورونو (ورونو او خویندو) چې زما  
او ستا قربانی خدای ته د منلو وړ وي د لوی  
خدای پلار

رب دی قربانی په خپل دربار کې قبولی کړي  
د هغه د نوم د ستاینې او ویار لپاره، زمور د  
بنه لپاره او د هغه د ټولو مقدس کلیسا  
بنه.  
آمین.

## Eucharistic دعا

رب دی درسره وي.  
او د خپل روح سره.  
**خپل زرونه پورته کړئ.**  
مور دوی رب ته پورته کوو.  
راخئ چې د خپل خبینتن خدای شکر ادا  
کړو.

دا سمه او عادلانه ده.  
سپیخلی، سپیخلی، سپیخلی خبینتن خدای.  
آسمان او ځمکه ستاسو له جلال خڅه ډک  
دی. حسنہ په لوره کې. بختور دی هغه  
څوک چې د خبینتن په نوم راخئ. حسنہ په  
لوره کې.

## د ایمان راز

مور ستا د مرگ اعلان کوو، ای ربہ، او د  
خپل قیامت دعوه وکړه تر خو چې تاسو بیا  
راشئ. یا: کله چې مور دا ډوډ وخورو او دا  
پیاله و خبینئ مور ستا د مرگ اعلان کوو، ای  
ربہ، تر خو چې تاسو بیا راشئ. یا: مور  
وژغوره، د نېر ژغورونکی، ستاسو د صلیب  
او قیامت لخوا تاسو مور آزاد کړي یو.

آمین.

## Urdu (اردو)

### اجتماعی رسم

نجات دند ک حکم پر اور خدائی تعلیم  
ک ذریع تشکیل دیا گیا ، می کند کی  
جسارت کرتے ہیں:

مار باب، جو آسمان پر ہیں، مقدس تیرا  
نام ؟ تیری بادشاہی آئی، آپ کی مرضی  
بوری وجاء گی زمین پر جیسا ک  
آسمان میں آج ک دن میں ماری  
روز کی روٹی د، اور ماری خطائیں  
معاف فرما، جیسا ک م ان لوگوں کو  
معاف کرتے ہیں جو مار خلاف گناہ کرتے  
ہیں اور میں آزمائش میں ن ڈال، لیکن  
میں برائی س بچا

میں برائی س نجات د، ا رب، م  
دعا کرتے ہیں، مربانی س مار دنوں  
میں امن عطا فرما، ک تیری رحمت س  
م میشد گناہ س آزاد و سکتے ہیں  
اور تمام پریشانیوں س محفوظ جیسا ک  
م مبارک امید ک انتظار کر رہے ہیں اور  
مار نجات دند، یسوع مسیح کی آمد  
بادشاہی ک لی، طاقت اور جلال آپ کا  
اب اور میشد ک لئے۔

خداوند یسوع مسیح، جس ن آپ ک  
رسولوں س کا: امن میں آپ کو چھوڑتا  
ہوں، اپنا امن میں آپ کو دیتا ہوں، مار  
گناہوں کو مت دیکھو لیکن آپ ک چرج ک  
ایمان پر، اور فضل س اس امن اور اتحاد  
عطا فرمائے آپ کی مرضی ک مطابق۔ جو  
میشد اور ابد تک زند اور حکومت کرتے  
ہیں  
آمین

خداوند کی سلامتی میشد آپ ک ساتھ  
ر

اور اپنی روح ک ساتھ  
آئی ایک دوسر کو امن کا نشان پیش  
کریں  
خدا ک بڑ، تم دنیا ک گناہوں کو دور کرے  
و، م پر رحم فرما۔ خدا ک بڑ، تم دنیا

## Pashto (پښتو)

### د ملګرتیا مراسم

د نجات ورکوونکی په امر او د الہی تعلیم  
لخوا رامینځته شوی، مور جرئت کوو چې  
ووایو:

زمور پلار، خوک چې په جنت کی دی، ستا  
نوم دی مقدس وي ستا سلطنت دی راشی  
ستاسو اراده به ترسره شي په څمکه کی  
لکه خنگه چې په آسمان کی دی۔ دا ورع  
مور ته زمور ورڅنډ ډود راکړه، او زموږ  
ګناهونه معاف کړه لکه خنگه چې مور هغه  
کسان بخښو چې زمور په وړاندی سرغېرونه  
کوي. او مور په فتنې کی مه راګرڅو، مګر  
مور له شر خخه وړغورو.

ريه، مور له هر شر خخه وساته، په مهریاز  
سره زمور په ورڅو کې سوله راولی، چې  
ستا د رحمت په مرسته، مور ممکن تل له  
ګناه خخه خلاص شو او د هر ډول مصیبت  
خخه په امان لکه خنگه چې مور د مبارک  
امید په تمه یو او زمور د نجات ورکوونکي  
عیسی مسیح راټک.

د سلطنت لپاره، څواک او ویاړ ستاسو دی  
اوں او د تل لپاره.

رب عیسی مسیح، چا ستا رسولانو ته وویل:  
سوله زه تاسو پریردم، زما سوله زه تاسو  
ته درکوم، زمور ګناهونو ته مه ګوره مګر  
ستاسو د کلیسا په باور، او په مهریاز سره  
هغې ته سوله او یووالی ورکړی ستاسو د  
ارادې سره سم. خوک چې ژوند کوي او د  
تل لپاره پاچاهی کوي.

آمین.

د رب سوله تل ستاسو سره وي.

او د خپل روح سره.

راخئ چې یو بل ته د سولې نبیه وړاندی  
کړو.

د خدای وری، تاسو د نبر ګناهونه لیری  
کوئ، په مونږ رحم وکړه. د خدای وری،

## Urdu (اردو)

ک گنا ون کو دور کر، و، م پر رحم فرما۔ خدا ک بُر، تم دنیا ک گنا ون کو دور کر، و، میں امن عطا فرما۔ خدا ک بُر کو دیکھو، اس کو دیکھو جو دنیا ک گنا ون کو لا جاتا مبارک ہے و لوگ جو بُر ک عشائی ک لی بلاز گئے ہیں

ا رب، میں اس لائق نہیں ون ک تم میری چھت ک نیچ داخل و، لیکن صرف لفظ ک و اور میری جان ٹھیک و جائز گی

مسیح کا جسم (خون)  
آمین

میں نمازیڑھن دو،  
آمین

## اختتامی رسومات

برکت

رب آپ ک ساتھ و  
اور اپنی روح ک ساتھ  
 قادر مطلق خدا آپ کو خوش رکھ، باپ،  
اور بیٹا، اور روح القدس  
آمین

برطرفی

آگ بڑھو، اجتماع ختم و گیا یا: جاؤ  
اور خُداوند کی انجیل کا اعلان کرو یا:  
سکون س جاؤ، اپنی زندگی س خداوند  
کی تمجید کرو یا: سکون س جاؤ  
خدا کا شکر ۔

## Pashto (پښتو)

تاسود نہ گناہونه لیری کوئ، په موږ رحم وکړه. د خدای وری، تاسود نہ گناہونه لیری کوئ، مورته سوله راکړه.  
د خدای وری ته وګوره، هغه ته وګوره خوک چې د نہ گناہونه لري کوي. بختور دي هغه خوک چې د میمنې ډوډ ته بلل شوي دي.

ربه، زه د دې ورنه یم چې ته زما د چت لاندې تنوخي مګر یوازې کلمه ووایه او زما روح به روغ شي.

د مسیح بدن (وینه).  
آمین.

راخئ چې دعا وکړو.  
آمین.

## پای ته رسیدل

برکت

رب دې درسره وي.  
او د خپل روح سره.  
لوی خدای دې تاسو ته برکت درکړي، پلار،  
زوی، او روح القدس.  
آمین.

گوبنې کول

لار شه، ماس پای ته ورسید. یا: لار شئ او د خبینتن انجیل اعلان کړئ. یا: په سوله کې لار شئ، د خپل ژوند په واسطه د خبینتن ستاینه وکړئ. یا: په سوله کې لار شه.  
د خدای شکر دی.